



میرے بعد تمہارا (ازواج مطہرات کا) معاملہ کچھ ایسا ہے، جو مجھے فکرمند رکھتا ہے تمہارا خرچ و بی اٹھائیں گے، جو صابر لوگ ہیں

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ (اپنی بیویوں سے) فرمایا کرتے تھے: ”میرے بعد تمہارا معاملہ کچھ ایسا ہے، جو مجھے فکرمند رکھتا ہے تمہارا خرچ و بی اٹھائیں گے، جو صابر لوگ ہیں“ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اللہ تمہارے باپ کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب فرمائے اس سے ان کی مراد عبد الرحمن بن عوف تھے انہوں نے آپ کی بیویوں کے ساتھ ایک ایسے مال کے ذریعے جو -کہا جاتا ہے کہ- چالیس ہزار (دینار) میں بکا، اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا [حسن] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ نے کہتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات سے مخاطب ہوئے کہ مجھے اپنی وفات کے بعد تمہارے معاملے اور تمہارے گزر بسر کے بارے فکر لاحق ہے؛ کیوں کہ میں نے تمہارے لیے کوئی میراث نہیں چھوڑی اور تمہارے اوپر خرچ کرنے کا بار صرف صبر کرنے والے لوگ ہی برداشت کریں گے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ رحمہ اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے باپ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب کرے، جسے سلسبیل کہا جاتا ہے کیوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ازواج رسول کے لیے ایک باغ بطور صدقہ دیا تھا، جو چالیس ہزار دینار میں فروخت ہوا تھا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11196>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

